





Deckelhalter KL 1591

Montageanleitung
Mounting Instructions
Processus de montage
Montageaanwijzing
Montageanvisning
Istruzioni di montaggio



Montagefolge:

- a) Scharnier Pos. 1 mit Zylinderschraube M 5 x 12 Pos. 2, Scheibe Ø 5,3 Pos. 3 und Mutter M 5 Pos. 4 an Gehäuse anschrauben.
- b) Scharnier Pos. 5 mit Buchse M 8 Pos. 6 und Mutter M 8 Pos. 7 an Deckel anschrauben.
- c) Deckel in Position bringen, Scharnierbügel Pos. 8 aufstecken und mit Bolzensicherung Pos. 9 sichern.
- d) Deckel schließen und mit Zylinderschraube M 5 x 32 Pos. 10 anschrauben.



Assembly sequence:

- a) Screw the hinge (item 1) onto the cabinet using cylinder screw M 5 x 12 (item 2), washer 5,3 dia. (item 3) and nut M 5 (item 4).
- b) Screw the hinge (item 5) with bush M 8 (item 6) and nut M 8 (item 7) onto the lid.
- c) Bring the lid into position, attach the hinge stay (item 8) and secure with safety bolt (item 9).
- d) Close the lid and screw on with cylinder screw M 5 x 32 (item 10).

Marche a suivre:

- a) Charnière pos. 1 avec vis cylindrique M 5 x 12 pos. 2, rondelle diamètre 5,3 pos. 3 et écrou M 5 pos. 4 à fixer contre le coffret.
- b) Charnière pos. 5 avec bague M 8 pos. 6 et écrou M 8 pos. 7 à fixer sur le couvercle.
- c) Positionner le couvercle, enfoncer la tige pos. 8 et verrouiller avec la goupille pos. 9.
- d) Fermer le couvercle en le fixant à l'aide des vis cylindriques M 5 x 32 pos. 10.

Montagevolgorde:

- a) Scharnier pos. 1 met cilinderkopschroef M 5 x 12 pos. 2, volg-ring doorsn. 5,3 pos. 3 en moer M 5 pos. 4 aan de kast bevestigen.
- b) Scharnier pos. 5 met bus M 8 pos. 6 en moer M 8 pos. 7 aan de deksel bevestigen.
- c) Deksel in de juiste positie brengen, scharnierbeugel pos. 8 opschuiven en d.m.v. boutje pos. 9 arreteren.
- d) Deksel sluiten en met cilinderkopschroeven M 5 x 32 pos. 10 vastschroeven.

Montageföljd:

- a) Gångjärn pos 1 skruvas fast med cylindriskruv M 5 x 12 pos. 2, bricka med diam. 5,3 pos 3 och mutter M 5 pos 4 på lådan.
- b) Gångjärnet pos 5 skruvas fast med hylsan M 8 pos 6 och mutter M 8 pos 7 på locket.
- c) Locket placeras i rätt position, gångjärnsbygeln pos. 8 stickes i och säkras med sprintsåkringen pos 9.
- d) Locket stänges och skruvas fast med cylindriskruv M 5 x 32 pos. 10.

Fasi di montaggio:

- a) Avvitare al contenitore la cerniera (pos. 1) con viti a testa cilindrica M 5 x 12 (pos. 2), rondelle Ø 5,3 (pos. 3) e dadi M 5 (pos. 4).
- b) Avvitare la cerniera (pos. 5) al coperchio con bussola M 8 (pos. 6) e dadi M 8 (pos. 7).
- c) Portare il coperchio in posizione, infilare la cerniera (pos. 8) e fissarla con l'anello elastico di arresto (Seeger) (pos. 9).
- d) Chiudere il coperchio e avvitare con viti a testa cilindrica M 5 x 32 (pos. 10).

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Electrical Enclosures](#) category:

Click to view products by [Rittal](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[120-902](#) [120-905](#) [120-403](#) [120-475](#) [120-901](#) [127-410](#) [130-007](#) [130-504](#) [130-506](#) [MR-25L+](#) [30-8739](#) [PIP-11774SCREW](#) [30-9715](#) [MR-25LW+](#) [110-407](#) [111-004](#) [111-008](#) [110-402](#) [110-901](#) [110-907](#) [111-002](#) [110-406](#) [110-910](#) [110-404](#) [110-409](#) [110-410](#) [120-405](#) [106-009](#) [106-505](#) [105-401](#) [106-006](#) [104-406](#) [137-002](#) [105-405](#) [111-005](#) [127-909](#) [106-502](#) [130-475](#) [130-503](#) [127-401](#) [106-010](#) [127-455](#) [127-475](#) [110-903](#) [R260-180-300](#) [9511020](#) [9822029](#) [9820014](#) [P61603000P](#) [9823009](#)